

Islamiat Elective - 9th Class Islamiat Elective Urdu Medium Short Questions Preparation

Q1. مقدار تلاوت سے کیا مراد ہے۔

Ans 1: مقدار تلاوت سے یہ مراد ہے کہ تلاوت چاہے تھوڑی ہی کی جائے لیکن اچھی طرح اور باقاعدگی کے ساتھ کرنی چاہیے جس قدر آسانی کے ساتھ پڑھا جاسکے پڑھے کم از کم اتنا پڑھے کہ سال میں دو مرتبہ قرآن ختم ہوجائے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر سال میں دو مرتبہ قرآن مجید مکمل ہو گیا کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے ساتھ آپ کی عمر آخری سال قرآن کریم دو مرتبہ دہرایا تھا

Q2. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا۔

Ans 1: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں اس پر انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیلی سے پوچھا تو اس عظیم کے عظیم بیٹے نے کہا جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزرے آپ مجھے صابروں میں پائیں گے سبحان اللہ

Q3. ختم نبوت کا مفہوم بیان کریں۔

Ans 1: خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا یعنی آخری کرنے والا یعنی آخری نبی اس سے مراد حضرت محمد ہیں حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں آپ کی تشریف آوری سے نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا ختم ہوتا ہے آپ کے بعد کوئی اور رسول یا نبی نہیں آئے گا

Q4. کراما کاتبین سے کیا مراد ہے۔

Ans 1: اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں جنہیں کراما کاتبین کہا جاتا ہے ایک فرشتہ اس کی نیکیاں اور دوسرا اس کے گناہ لکھتا ہے انسان ایک ذرہ برابر بھی جو عمل کرتا ہے وہ ضرور لکھا جاتا ہے ان سے انسان کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں وہ امانت دار اور دیانت دار ہیں کبھی غلطی نہیں کرتے

Q5. والدین معہ کا ترجمہ کیجیے۔

Ans 1: ترجمہ: اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں

Q6. انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟

Ans 1: انسانیت کی سب سے بڑی اور مقدم خدمت یہ ہے کہ افکار، اخلاق اور اعمال کی اصلاح کے بجائے اور ہر قسم کے اچھے اخلاق کے اصول وضع کیے جائیں اور پھر دنیا میں ان کی عملی تعلیم دی جائے۔

Q7. رسول کا کیا کام ہوتا ہے۔

Ans 1: رسول اور نبی کا کام انسانوں کی اصلاح ہے وہ اس لیے کہ انسان جسے عقل ارادہ سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا کی گئی ہے اپنے اعمال میں آزاد اور خودمختار ہے اور اسی سبب سے وہ اشرف مخلوقات مقام رکھتا ہے لیکن اگر انسان اپنے ارادے کی اصلاح ضروری ہے یہی وہ کام ہے جو نبی اور رسول سرانجام دیتا ہے

Q8. من، ضلال الفاظ کے معنی لکھیے۔

من: احسان ضلال: گمراہی
Ans 1:

حضرت عیسیٰ (ع) نے شیر خواری میں لوگوں سے کیا باتیں کیں؟ Q9.

حضرت عیسیٰ (ع) نے شیر خوارگی میں لوگوں سے باتیں کیں اور ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی اور اللہ کی طرف سے کتاب دیے جانے اور نبوت کا اعلان کیا
Ans 1:

تلاوت قرآن کریم فضیلت بیان کیجیے۔ Q10.

احادیث میں تلاوت قرآن کریم کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اور تلاوت کی تاکید کی گئی ہے ایک حدیث میں ہے میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن کریم ہے قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے حدیث شریف میں ہے جو شخص قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا اسے دس نیکیوں کا ثواب ملے گا آپ نے اسی حدیث میں یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ اللہ ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف لام ایک اور حرف اور میم ایک اور حرف ہے
Ans 1:

القواعد تعز کے معانی لکھیے۔ Q11.

بنیادیں تو عنایت دیتا ہے
Ans 1:

حضور اکرم کے لقب مبشر کی وضاحت کریں۔ Q12.

مبشر حضور کا دوسرا لقب ہے مبشر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا آپ نیک لوگوں کو اچھی جز اور جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں ایسے ہی گنہگار بندکار اور خطا کار لوگوں کو توجہ کرنے پر اللہ کی بخشش اور مغفرت کی خوشخبری سنانے والے ہیں
Ans 1:

"جمع بنائیں "صَادِقٌ" "مُؤْمِنَةٌ"۔ Q13.

صَادِقُونَ مُؤْمِنَاتٌ
Ans 1:

حضور کے صحابہ کی چار خصوصیات تحریر کیجیے۔ Q14.

توحید و سنت کے پروانوں صحابہ کرام کی چند خصوصیات اوصاف جو قرآن مجید میں درج ہیں کافروں پر سخت ہیں یعنی جب کفار پر حملہ کرتے ہیں تو سختی سے کام لیتے ہیں آپس میں رحم دل اور نہایت شفیق ہیں جذبہ اخوت و ہمدردی سے سراز ہیں اور ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرتے ہیں وہ اکثر عبادت میں مصروف رہتے ہیں کبھی رکوع میں اور کبھی سجدوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے طلبہ گار رہتے ہیں اور اسی کے فضل و کرم کی جستجو میں لگے رہتے ہیں
Ans 1:

حضرت نوح کی تیغی کے جواب میں ان کی قوم نے کیا کہا۔ Q15.

حضرت نوح کی تبلیغ کے جواب میں ان کی قوم نے کہا اے نوح اہم سے بحث و مباحثہ نہ کر اور ہمارے اس انکار پر اللہ کا عذاب لاسکتا تو لے آ
Ans 1:

ترجمہ کریں بلغ ما نزل۔ Q16.

ترجمہ: پہنچا دیجیے جو نازل کیا گیا
Ans 1:

تُو تَى الْمَلِكُ" کا ترجمہ لکھیں۔ Q17.

Ans 1: تُو تى الْمَلِكُ: تو ملك ديتا ہے

Q18. اسم کی تعریف کریں

Ans 1: اسم : وہ کلمہ ہے جو کسی انسان حیوان یا چیز کا نام ہو

Q19. کراماً کاتبین سے کیا مراد ہے؟

Ans 1: اللہ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں جنہیں کراماً کاتبین کیا جاتا ہے ایک فرشتہ نیکیاں اور دوسرا فرشتہ گناہ لکھتا ہے

Q20. وضاحت کیجیے ایمان بالاخرت

Ans 1: ایمان بالاخرت سے مراد ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی اور فانی ہے لیکن یہ نہیں ختم نہیں ہوجاتی بلکہ اس کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے جو دائمی اور ابدی ہے مرنے کے بعد ایک دن تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے دنیا کی زندگی میں کیے گئے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی